



سوال

(301) سلام پھرنے کے بعد بقیہ نماز بغیر سترہ کے پڑھنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب نماز کھڑی ہو اور کوئی شخص آجائے جس کی کچھ نماز فوت ہو چکی ہو اور وہ نماز میں شامل ہو جائے تو جب امام سلام پھیرے دے اور وہ شخص باقی نماز کے لیے اٹھ جائے تو کیا وہ سترہ کی طرف نماز میں آگے یا پیچھے جاسکتا ہے؟ یا وہ نماز میں شامل ہونے سے پہلے اپنے سامنے سترہ رکھ سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جواب دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسی حالت میں سترے کی تلاش میں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ بعد میں ملنے والا مقتدی موجودہ ہیئت میں ہی نماز مکمل کر لے اور نہ ہی پیشگی کسی سترہ کے بندوبست کی ضرورت ہے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر کی ایک رکعت فوت ہو گئی تھی۔ حالت قضا کی میثابت نہیں ہو سکا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کسی سترہ کا انتظام کیا ہو۔ حالانکہ عہد نبوت کے آخری دور کا یہ واقعہ ہے۔ نیز اصل چونکہ ”براءة ذمہ“ ہے اس لیے بھی اسی کیفیت کو ترجیح ہوگی۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

کتاب الصلوٰۃ: صفحہ: 293

محدث فتویٰ